اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا شَفِیْعَ الْمُذْنِبِیْنَ

41

گلدستۂ درودِ پاک

مع

احادیث وواقعات



بانی تحریک درود و ختم نبوت

و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

محمد شاہد

0340-6252923

سوا کروڑ دُرُود ِپاک کی نیت کرنے کا فائدہ اور طریقہ

اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے تو سوا کروڑ درودِ پاک پڑھنے کی نیت کیجیے جیسے ہی آپ سوا کروڑ کی نیت کریں گے یعنی دل میں ارادہ کریں گے کہ ان شاء اللہ زندگی میں سوا کروڑ درود پاک پڑھیں گے (نہ جانے زِندگی کب ختم ہوجائے) تو آپکو سوا کروڑ کا ثواب اسی وقت مل جائے گا اور پھر جتنا جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا اتنا ثواب دوبارہ ملتا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ پر کرم اور نوازشات کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ صیغے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے چوبیس گھنٹے وضو بے وضو حتیٰ کہ پاک ہوں یا ناپاک ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں اور درود پاک کبھی رد بھی نہیں ہوتا۔ جتنا ہو سکے روزانہ پڑھیں اور کسی نوٹ بک وغیرہ میں روزانہ کا پڑھا ہوا لکھتے جائیں۔ نیت کرنے کے بعد اگر تھوڑا سا پڑھنے کے بعد پڑھنا چھوٹ جائے تو نہ پڑھنے کا کوئی گناہ بھی نہیں۔

دو مختصر مگر جامع صیغے یہ ہیں:

دُرُودِ مختصر: صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

دُرُودِ خِضری:

صَلَّی اللہُ عَلٰی حَبِیۡبِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصۡحَابِہٖ وَسَلَّمَ

تحریک درود وختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا خَاتَمَ النَّبِیّٖنَ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا شَفِیْعَ الْمُذْنِبِیْنَ

41

گلدستہ درود پاک

مع

تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ

احادیث و واقعات

بانی تحریک درود وختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

محمد شاہد

وٹس ایپ نمبر

0340-6252923

معاونین کے لیے اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے التماس دعا

خادم درود و خادم ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عمر علی،
خادم درود و خادم ناموس رسالت وختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشفاق حسین ،
خادم درود و خادم ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد حنیف خان،
تحریک درود وختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،ڈیرہ بگٹی بلوچستان،
خادم درود و خادم ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم درود اویس اختر،راولپنڈی (کلر سیداں)۔وٹس ایپ نمبر 0307-8562597

خادم درود صوفی سجاد احمد نقشبندی بانی درود پھیلاؤ تحریک، خانیوال (کبیر والا)، وٹس ایپ نمبر 0302-8278941

خادم درود جواد احمد ،خادم درود کیپٹن محمد سجّاد اسلم، خادم درود محمد ارسلان، خادم درود ایڈووکیٹ میاں محمّد عاصم یٰسین، خادم درود ارشد علی قادری،محمد جاوید اقبال قادری خادم درود وسلام،خادم درود محمد شعیب ،خادمہ درود سونیا مقبول ،خادمہ درود سیما یوسف، ثناء یاسر،عابدہ پروین ،خادم درود غلام

اسحاق سولنگی،خادم درود وقار احمد،خادم درود احمد نبی مجیب،غلام باسط،محمد مدثر فدا، ،محمد خلیق سانول،نوین منظور، خادم درود محمد صدیق ندیم،خادم درود عفران حسین،بنت جمیل عطاری، عبدلستار ،خادمہ درود شازیہ احمد،محمد فیضان الدین،محمد ابوبکر محتشمی،اللہ جیوائی ،محمد نوید،داد محمد،محمد احمد،ثریا بی بی۔محمد سلیم، رانا احسان دانش ،محمد عاصم قادری، حیدر فاروق،نام:- اہلیہ نعیم روشن شیخ تمام پڑھنے والوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ بھی جن بہن بھائیوں کے نام درج بالا ہیں اور ان کے علاوہ بھی دیگر بہن بھائی جنہوں نے آخری نبی آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ناموس وختم نبوت ﷺ اور درود پاک کے لیے اس گلدستے میں (کتابچے) اپنا مالی حصہ ڈالا تعاون کیا ان کے لیے،ان کے والدین کے لیے،ان کے مرحومین کے لیے، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ،موجودہ اور قیامت تک آنے والی کل امت محمدیہ ﷺ کے لیے اور مجھ بندہ ناچیز کے لئے دعا کیجیئے کہ اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے ،لکھنے اور لکھوانے کی، درود پاک کی اور تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت ﷺ کے لیے مالی اور ہر طرح کی خدمات

کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے اور درود پاک، تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں کے صدقے اور آخری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دونوں جہانوں کی خوشیاں، کامیابیاں و کامرانیاں ،صحت و تندرستی ، کشادہ رزق حلال ،قرض سے نجات ، اچھا شریک حیات اور آخری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارات مقدس سے خواب اور بیداری دونوں عالم میں بار بار نوازے۔آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی العربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما

خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مقدس کا نسخہ: مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی عمل بتا دیں؟ فرمایا! تم جاگتے ہوئے انہیں نہ بھولو، جب سو جاؤ گے تو وہ تمہیں نہیں بھلائیں گے۔

یعنی درود شریف پڑھتے رہو اور تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پلیٹ فارم پر کام کرو اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔

زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 22 مرتبہ مشرف ہونے کے دوران ہونے والے مشاہدات و کرشمات اور تجربات

سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ پڑھ لیجیے ۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

(صحیح البخاری الحدیث: 110 ص 12)

اس لیے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

آج میں اپنے مشاہدات و کرشمات بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خواب میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو میری زیارت ہوئی ہے وہ اپنے مشاہدے شیئر کرے جو شیئر کرے گا آخرت میں ان کے وہ مشاہدے واپس لوٹائے جائیں گے اور میں ان کی شفاعت بھی کروں گا۔

سبحان اللہ۔

(بحوالہ؛ برکات درود وسلام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ص 36)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے کہ مشاہدے سنائے جائیں اور شوق پیدا کیا جائے اس لیے بتا رہا ہوں۔

میں بندہ ناچیز اس گلدستے (کتابچے) کا مرتب خادم درود و خادم ناموس رسالت و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: محمد شاہد پیش خدمت ہوں مجھے تقریباً 22 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور چاروں خلفائے راشدین کی بھی اور کچھ اولیاء اللہ کی زیارتیں بھی نصیب ہوئی ہے اور مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارات نصیب ہوئیں اور تقریباً تین مرتبہ اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارات نصیب ہوئیں کہ میں بندہ ناچیز چار پائی پر لیٹے ہوئے ہوتا تھا اور مکمل نیند میں نہیں ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی اور ایک مرتبہ اس طرح بھی زیارت ہوئی کہ

جس طرح استاد کلاس روم میں کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد کی طرح کلاس روم میں کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں اور میں بندہ ناچیز بھی شاگردوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قریب والے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ میں بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا تھا۔

ایک مرتبہ مجھے شدید بخار ہوا اور تقریباً تین دن تک کچھ کھایا نہیں سوائے چند لقموں کے اور تین دن گزرنے کے بعد فجر کی اذان کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آچکے ہیں یہ کیفیت محسوس ہوتے ہی مجھے بہت سکون ملا جیسے کہ میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی الحمدللہ اور جب میں صبح اٹھا تو ٹھیک ہو چکا تھا الحمدللہ اور مزید میرے ساتھ بچپن سے کچھ جنات، سایہ اور کچھ جسمانی مسائل تھے اتنے کہ میری

پوری بستی کی میڈیسن کا خرچ ایک طرف اور دوسری طرف میری میڈیسن کا خرچ برابر تھا۔

ایک مرتبہ یوں آخری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور یوں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میڈیسن دیں گے۔ الحمدللہ اس خواب کے بعد دنیا کے ڈاکٹروں سے میڈیسن لینے کی جان تقریباً چھوٹ ہی گئی ہاں کیا ہوا کبھی کبھار ہلکی پھلکی تھوڑی بہت میڈیسن لینی پڑ گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف انداز میں زیارتیں ہوئی الحمدللہ ۔آج کل ہم الحمداللہ بالکل صحت مند تندرست ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا بیماری نہیں ہے ذہانت اورقوت حافظہ بھی کمال درجے کا مل گیا۔ ایک بار میں نے خواب اس طرح دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہیں اور وہاں لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے اور میں بندہ ناچیز

بھی وہاں لنگر جی بھر کے کھاتا ہوں۔ مجھے کئی اور ایسے خواب بھی آئے ہیں جن کو سرعام بتانا نامناسب سمجھتا ہوں۔

یہ عظمتیں مجھے درود پاک پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے، ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کرنے کے صدقے ملیں اور یہ کام ہر ایک مسلمان کرسکتا ہے بلکہ کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیراً

جنت کی ضمانت

آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ خوش کرنے والا اور عزیز عمل تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کام کرنا ہے اور جو یہ کام کرے اس کے جنتی ہونے کا میں ضامن ہوں۔

(بقول: علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ)

میرے دو مقدس خواب جو مجھے بے انتہا عزیز ہیں

پہلا خواب:

میں بندہ ناچیز تقریباً 22 مرتبہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارات سے مشرف ہوا لیکن مجھے زیادہ عزیز وہ زیارت ہے جب میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے متعلق پریشانی میں تھا اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں درود پاک پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم اور نظر شفقت فرمائی اور مجھے اپنی زیارت سے کچھ اس طرح سے نوازا کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس، مطہر، منور سے لگ کر رویا اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپ لوگوں (گستاخوں) سے کہیں کہ اپ کی گستاخی

نہ کیا کریں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آقا جان ﷺ کے وجود اطہر سے لگ کر رو بھی رہا تھا اور سکون بھی بہت محسوس کر رہا تھا اس طرح آپ ﷺ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور بے انتہا شفقت فرمائی اور پھر مزید آقا جان ﷺ نے ناموس رسالت ﷺ پہ مجھے کام کرنے کی توفیق اور بشارت بھی عطا فرمائی۔

(اب جو گلدستہ (کتابچہ) پرنٹ کروایا ہے اس کی بھی الحمدللہ پرنٹنگ سے پہلے ہی بشارت مل چکی تھی تو ہی توفیق ملی اور پرنٹ ہوا الحمدللہ)

دوسرا خواب:

میں بندہ ناچیز ایک بہترین ٹیم کی شکل میں شوشل میڈیا وغیرہ پر کام کر رہا ہوں جس میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ٹیم ممبرز (میل اور فی میل) کام بھی کر رہے ہیں اور مجھے

مختلف طرح کی خبریں بھی دیتے رہتے ہیں تو سن کے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے ان دنوں میں بھی بہت تکلیف میں تھا (بلکہ اب بھی ہوں)۔آقا جان ﷺ کی یاد میں درود پاک پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تو کیا دیکھتا ہوں سرزمین حرم ہے خانہ کعبہ کے اندر ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر مجھے مزید آقا جان ﷺ کی ناموس و ختم نبوت ﷺ پہ کام کرنے کی بشارت ملی۔

یعنی آقا جان ﷺ کی ناموس و ختم نبوت کے متعلق پریشان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دونوں شرف بخشے کہ نبی کریم ﷺ کے وجود مقدس سے لگ کر رویا اور خانہ کعبہ کے اندر گیا۔الحمدللہ۔

لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام اور برکتیں ہوں آقا جان ﷺ پر اہل بیت پر اور آپ ﷺ کی آل و اصحاب پر۔

زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائن کیا اور کیوں کیا؟ شیئر کرنے کا مقصد؟

یہ مشاہدہ میں شیئر تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات ذہن میں بار بار آ رہی تھی (آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان، مال، روحانیت سب کچھ قربان بلکہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نام ہی ایمان اور روحانیت ہے) وہ یہ کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈاکٹر انیلا صاحبہ کو پیغام دیا کہ مشاہدے چھپاؤ نہیں لوگوں کو بتاؤ میری امت بہت پریشان ہے ان کو بتائیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں سبق حاصل کریں عمل کریں اور سکون پائیں۔

یہ بات ہے غالباً 12 ماہ رمضان 2025 کی مبارک شام کی جب ہماری گفتگو شروع ہوئی۔ بھائی کچھ دن سے کہہ رہا تھا کہ تقریباً چھ ماہ گزر گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت

نہیں ہوئی (اس سے پہلے بھی تقریباً 12 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو چکا تھا) تو میں نے کہا مکمل تقویٰ سے درود پاک پڑھو اللہ نے چاہا تو بہت جلد ایک ڈیڑھ ماہ میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی تقویٰ کا اس لیے بولا کیونکہ ان دنوں میں وہ آن لائن فی میل ٹیچر کے ویڈیو لیکچر سن رہا تھا کیونکہ وہ ایک طالب علم تھا میں نے کہا چاہے کچھ ہو جائے آپ نے فی میل ٹیچرز کے لیکچرز نہیں سننے کہنے لگا اگر تقویٰ کے ساتھ پڑھنے سے بھی زیارت نہ ہوئی تو میں نے کہا میں لکھ کے دوں گا چاہے مجھ سے سائن کرا لو کہنے لگا ٹھیک ہے اب تقویٰ کے ساتھ پڑھوں گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔

13 رمضان المبارک کو سحری کے وقت مجھ سے باقاعدہ اس نے تاریخ لکھ کے سائن کروایا کیونکہ بات طے ہو چکی تھی اس لیے پھر میں نے بھی سائن کر دیا۔ سائن کرنے کے ساتھ

ہی میری روح بھی کانپ گئی تھی کہ آج میں نے کس بات پہ اور کتنا بڑا سائن کیا ہے اور اگر سائن نہ کرتا تو وہ نہ میری بات پر یقین کرتا نہ وہ تقویٰ کے ساتھ درود پاک پڑھتا اور نہ ہی وہ کامیاب کارگر خادم درود وخادم ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا اس لیے سائن کیا تھا اور سائن کے ساتھ نیچے ہی میں نے لکھ دیا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا کثیرا کثیرا۔۔۔۔

یہ لکھنے کا مطلب تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تو کوئی اوقات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کرنا اور میں نے تو بس کوشش کی ہے آپ کے امتی کو آپ سے ملانے کی ۔

میں خود بھی دعا کرنے لگا کہ میری بات سچی ہو جائے اور شرمندگی نہ ہو ۔ الحمدللہ ایک ماہ ایک دو دن گزرنے کے بعد بھائی خواب میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نہ صرف

مشرف ہوئے بلکہ بات چیت کا بھی شرف حاصل ہوا آپ لوگ اس مشاہدے سے اندازہ لگا لیں کہ درود پاک پہ ہمیں کس قدر بھروسہ ہے اور درود پاک کس قدر انسان کی سپورٹ کرتا ہے اسی لیے تو ہم صرف اور صرف درود پاک پڑھتے اور پڑھواتے ہیں۔قرآن و حدیث اور اقوال اولیاء اللہ سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالی اور آقا جان ﷺ کو بھی سب سے زیادہ عزیز درود پاک ہی ہے۔اللہ تعالیٰ اور آقا جان ﷺ کا قرب خاص اور دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور کامیاب ذریعہ بھی درود پاک ہی ہے۔

نوٹ : یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جس نے پہلے بھی نبی کریم ﷺ کی تقریباً 12 مرتبہ زیارت کی تھی لیکن نامحرم ٹیچر کی لیکچر ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے اس کی زیارتوں کا

سلسلہ بند ہو گیا یعنی اتنی روحانی تباہ ہو گئی جبکہ ایک نیا شخص جس نے پہلے کبھی زیارت کی ہی نہیں سوچیں اس کی روحانیت پہ نا محرم کی ویڈیو وغیرہ دیکھنے کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ اور یہ بھائی پچھلے ماہ رمضان سے لے کر اس ماہ رمضان تک مزید تقریباً آٹھ بار زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے مشرف ہوا یعنی ٹوٹل تقریباً 20 مرتبہ مشرف ہوا اور آج کل یہ بھائی ایک بہترین زبردست خادم درود و ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بن چکا ہے یہ بھائی درود مختصر صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پڑھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی زیارتوں کے صدقے اس بھائی کو بہت اچھی صحت عطا فرمائی اور کمال درجے کا قوت حافظہ اور ذہانت عطا فرمائی اور معاشرے میں بہت عزت بخشی۔

الحمدللہ اس سائن کرنے کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ بھائی نے زیارت کے دوران آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بارگاہ مقدس میں مجھ

بندہ ناچیز کے لیے اور میری تحریک کے لیے بھی دعا کرنے کی عرضی پیش کی تو آقا جان ﷺ نے اسی وقت ہی ہاتھ اٹھا کے مجھ بندہ ناچیز کے لیے اور میری تحریک کے لیے دعائیں کی اور الحمداللہ میری تحریک "تحریک درود و ختم نبوت و ناموس رسالت ﷺ" نا قابل یقین طور پر بڑھی اور کامیاب ہوئی۔ میں بندہ ناچیز خود بھی وقتاً فوقتاً تصوراتی دنیا میں آقا جان ﷺ کی بارگاہ اقدس میں عرضی پیش کرتا رہتا ہوں اور مدینے جانے والے لوگوں سے بھی اپنی تحریک کے لیے دعا کرواتا رہتا ہوں۔

یہ مشاہدہ اس لیے شیئر کیا تاکہ اپ تقویٰ کی اہمیت کو سمجھیں اور آپ لوگ بھی تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ سے مراد تمام غیر شرعی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے لیکن جو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں روحانیت اور انسانیت کو وہ گانے بجانے فلمیں ڈراما ، فنی ویڈیو، ٹک ٹاک ، اور فیس بک وغیرا پر

غیر شرعی چیزیں دیکھنا، نامحرم سے بلا ضرورت بات چیت کرنا ،والدین کی نافرمانی ،میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ،حرام رزق ،ان تمام چیزوں سے مکمل پرہیز کریں اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے (کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ نظر شفقت اور کرم کر دیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالی تمام پریشانیاں ختم کر دے اور تمام جائز خواہشات کی تکمیل کر دے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عنایات اور نوازشات سے ہمیں بھی نوازیں) تقویٰ کے ساتھ درود پاک پڑھیں تو آپ پھر دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور دنیا و آخرت میں جو چاہیں گے وہ پا لیں گے اِن شاء اللہ العزیز۔

جو ممبرز آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و ختم نبوت اور درود پاک کے لیے مجھے فنڈنگ کر رہے ہیں یا کریں گے وہ میری

تحریک میں شامل ہیں یعنی جب جب میری تحریک کے لیے جہاں جہاں دعا ہوگی ان کے لیے بھی ہوگئی ان شاءاللہ کیونکہ وہ میری تحریک کا حصہ ہیں۔آپ لوگوں کے پیسے میری ذات کے لیے حرام ہیں ۔سب سے بڑی بات جو درود پاک ،ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود دعا کرتے ہیں اور ان کے نام آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیا و آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں اور بیشک دُنیا و آخرت میں بہت زیادہ نوازے جائیں گے اِن شاء اللہ

مرکزی حیثیت

اسلام کے تمام شعبوں کے لیے عقیدہ ختم نبوت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔(امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ)

آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے ذکر و اذکار کی جگہ بھی درود پاک ہی پڑھا جائے

حضرت اُبَیّ بِن کَعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسولُ اللہ! میں آپ پر کثرت سے دُرُود شریف پڑھتا ہوں، ارشاد فرمایئے کہ کتنا وقت دُرُود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کرلوں؟ فرمایا: ''تم جس قدر چاہو مقرر کرلو۔'' عرض کی: چوتھائی وقت مقرر کرلوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''جتنا چاہو اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔'' عرض کی: میں نصف (یعنی آدھا) وقت دُرُود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کرلوں؟ فرمایا: ''تم جتنا چاہو مقرر کرلو اور اگر اِس سے بھی زِیادہ وَقت مقرر کرلو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔'' عرض کی: میں دو تہائی مقرر کرلوں؟ فرمایا: ''تم جتنا چاہو وَقت مقرر کرلو اور اگر اِس سے زِیادہ وَقت مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔'' عرض کی: ''میں (سارے وِرد، وظیفے چھوڑ دوں گا اور) اپنا سارا وقت

دُرُود شریف پڑھنے میں خرچ کروں گا۔" تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِرشاد فرمایا: "اگر ایسا کرو گے تو دُرُود شریف تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔"

(ترمذی ج ۴ ص ۲۰۷ حدیث ۲۴۶۵ دار الفکر بیروت)

میری تحریک "تحریک درود وختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" کیسے وجود میں آئی۔

میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کی موٹی ویشن کے لیے بتاؤں (کیونکہ بعض لوگوں کے خواب سے پتہ چلا ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مشاہدے سنائے جائیں اور شوق پیدا کیا جائے) کہ کس طرح ایک انسان تھوڑا تھوڑا کام کر کے بہت بڑا کام کر جاتا ہے تو اس لیے میں آج اپنی ہی کہانی سنانا چاہوں گا جو کہ ایک نئے آدمی کے لیے انتہائی حیران کن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے خاص ترین دوستوں کو اور شوشل میڈیا پر ان دو

احادیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود شریف کی دعوت و تبلیغ شروع کی اور الحمدللہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو درود پاک پڑھنے اور لکھنے پہ لگا دیا وہ احادیث مبارکہ یہ ہیں آخری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نیکی کا پتہ بتایا اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے کے جیسا اجر ہے۔
(صحیح مسلم 4899)

آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس کو اس کا اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ملتا ہے اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ (صحیح مسلم 2351)

پھر درود پاک کی مختلف درود تحریکوں کو دیکھ کے درود پاک پر خرچ کرنے کا شوق بھی پیدا ہوا میں نے شروع شروع میں تقریباً

40،50 روپے کے ایک دو گلدستے کسی کو تحفے میں دیے اور درود پاک کی مختلف تنظیموں کو دیکھ کر خرچ کرنے کا شوق پیدا پیدا اور اپنی حیثیت کے مطابق فنڈنگ کرنا شروع کی۔ کچھ عرصہ بعد ہم نے خود 50 درود گلدستے منگوائے اور فی سبیل اللہ تقسیم کیے تو دوست احباب نے دیکھے اور ان کو پتہ چلا یہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسند کردہ گلدستہ ہے تو انہوں نے بھی مل جل کر مزید فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی خواہش کی اور اس طرح ہم نے پھر مزید 200 گلدستے منگوا کے فی سبیل اللہ تقسیم کیے اس طرح دوستوں میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر آخر کار ہم نے مل جل کر خود ہزاروں کی تعداد میں اسٹیکرز اور گلدستے پرنٹ کروا کے تقسیم کرنے شروع کیے اور بے شمار مشاہدات و کرشمات دیکھے اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ کی زیارتوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت بڑھتی گئی اور آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و ختم نبوت پہ کام کرنے کا شوق پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً خواب میں اشارے

ملے اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملنے کے بعد ناموس رسالت و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مواد شوشل میڈیا پر شیئر کرنا اور پرنٹ کرنا شروع کر دیا اس طرح ہماری ایک باقاعدہ تحریک "تحریک درود و ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" وجود میں آئی۔

میں نے اور میرے دوستوں نے ایک بات نوٹ کی کہ جیسے جیسے میں درود پاک، ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام بڑھاتے گئے اسی طرح میرے اور میرے دوستوں کے مشاہدات و کرشمات اور آخری نبی آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ کی زیارتوں میں اضافہ ہوتا گیا اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو شخص بھی جتنا زیادہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و ختم نبوت اور درود پاک کے لیے کام کرے گا اور خرچ کرے گا اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ مشاہدات و کرشمات ہوں گے یعنی اتنی ہی حیران کن دنیا و آخرت کی کامیابی ملے گی اور اللہ تعالی کی خوشنودی خاص اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں اور قرب خاص ملے گا۔

میرے دوست احباب کس درود پاک سے زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے!

میں بندہ ناچیز اپنے دوستوں، شاگردوں اور مختلف لوگوں کو مختصر درود و سلام یعنی ''صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم'' پڑھنے اور پڑھوانے، لکھنے اور لکھوانے کے لیے بتاتا ہوں میرے کئی دوست بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں جن کو میں نے ''صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم'' پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ درود پاک ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا کام سبھی لوگ کر سکتے ہیں بلکہ کریں جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا

اگر کوئی بہن بھائی گھر بیٹھے سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہے یا ان کاموں کے لیے خرچ کرنا چاہے یا درود پاک کی فضیلت پہ مشتمل کتابیں یا لکھنے کے لیے درود ٹریسنگ ڈیریاں منگوانا

چاہے تو ہم سے رابطہ کریں۔

رابطہ نمبر وٹس ایپ محمد شاہد 0340-6252923

جاز کیش: 0307-6332464

ایزی پیسہ: 0345-0500385

ختم نبوت کا تحفظ کرنا فرض عین ہے!

بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا فرض عین ہے۔ (مجاہد ختم نبوت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ)

ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور آخری نبی آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے اور لعنتی قادیانیوں کی پاکستان میں موجودہ صورتحال !

قادیانی لعنتی جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہلواتے ہیں پورے پاکستان میں ان کے مرکز بن چکے ہیں اور مسلمانوں کو قادیانی یعنی کافر بنا رہے ہیں بلکہ کفار سے بھی بدترین بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا رہے ہیں اس لیے محتاط رہیں اپنے بچوں ،طلباء،عزیز و اقارب سب کی حفاظت کریں ان کو اچھی طرح بتائیں اس وقت لعنتی قادیانی ،لوگوں کو قادیانی یعنی کافر بلکہ کافر سے بھی بدتر بنا رہے ہیں پہلے پیار سے قادیانی بناتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں پیار سب سے نفرت کسی سے نہیں جو ایک بار قادیانی بن گیا اسے دوبارہ مسلمان نہیں بننے دیتے اور بعد میں ان سے ماہانہ زبردستی مار پیٹ کر کے ٹیکس بھی لیتے ہیں جو

کہ دوسرے مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لیے اپنے بچوں ،طلباء ،عزیز و اقارب سب کو اچھی طرح بتائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

''میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔''(ترمذی شریف، حدیث:2219)

اب جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا لعنتی کذاب ہے جیسے جیسے لعنتی جھوٹے مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی پورے پاکستان میں خفیہ طور پر اپنے مرکز قائم کر چکے ہیں اور خفیہ طور پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ہے حتیٰ کہ بعض علاقوں میں تو ان کی اپنی عدالتیں اور ٹارچر سیل بھی موجود ہیں اور جن علاقوں میں قادیانیوں کی کثیر تعداد موجود ہے یا جہاں کثیر

تعداد ہوتی جا رہی ہے وہاں اگر کوئی مسلمان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ بھی لگا دے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے اور قتل بھی کر دیا جاتا ہے

جو خود واجب القتل ہیں وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اور کل قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بروقت آنکھ کھولنی چاہیے کیونکہ آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔

جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے آذیت دی ، پس اس نے اللہ پاک کو اذیت دی۔ (معجم الاوسط، الحدیث، ۳۶۰۷، ج ۲،۳۸۶)

(توجہ فرمایئے ! اس لیے کسی مسلمان کو تکلیف نہ خود دیں اور نہ کسی کو دینے دیں تا کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو قبر اور محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ بھی دکھانا ہے۔ شیئر بھی کریں ہو سکتا ہے اس حدیث کو سن کے مسلمان ایک دوسرے کو

تکلیف دینا کم ہو جائیں اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو)

اس درج بالا حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے ذرا نہیں بہت بہت زیادہ سوچیے کہ ایک مسلمان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچانے سے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی کو تکلیف ہوتی ہے اور جو قادیانی لعنتی، کتے، خنزیر مسلمانوں کو قادیانی بنا کر کفار سے بھی بدترین بنا دیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتے ہیں تو ان لعنتی قادیانیوں سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی ۔نوٹ : مسلمان کافروں سے لین دین یعنی خرید و فروخت کر سکتے ہیں لیکن محبت بھرے تعلقات نہیں رکھ سکتے لیکن لعنتی قادیانیوں کے ساتھ خرید و فروخت کسی قسم کا لین دین، خوشی غمی، شادی بیاہ بالکل کسی بھی قسم کے تعلقات رکھنا ناجائز و حرام ہے اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔

تحقیق سے پتہ چلا ہے یہ لعنتی قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہلواتے ہیں آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ جب کہ ہمارے آخری نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: قیامت تک جو کسی بھی نبی کی شان میں ہلکی بات (گستاخی) اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ (مسند الفردوس رقم الحدیث 5688)

اس لیے کل امت محمد یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت آنکھ کھولنے کی اور جاگنے کی ضرورت ہے میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا والدین اولاد کو اور اولاد والدین کو بھی نہیں پہچانیں گی تو اس وقت آخری نبی آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری مدد کریں گے اور ہم نے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محشر میں منہ بھی دکھانا ہے وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم مجبور تھے یا ہماری نوکری کا مسئلہ تھا یا میرے اکیلے سے کیا ہونے والا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ہر مسلمان پر

اپنی حیثیت کے مطابق ناموس رسالت و ختم نبوت ﷺ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی فرض عین ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔

ترجمہ: ”پس اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہو۔
(سورۃ التغابن،آیت 16) یعنی ہر بندہ اللہ تعالیٰ
سے ڈرتا رہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق
دین کا کام کرتا رہے۔“

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ: کہہ دو اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، تمہارا مال، تجارت اور گھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں،تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔(سورۃ التوبہ،آیت 24)۔ یہ آیت صاف دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اور آقا جان حضرت محمد

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال و دولت ،عزیز و اقارب حتیٰ کہ اپنی جان سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔مزید نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھ لیجیے ترجمہ:تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (صحیح بخاری:15،صحیح مسلم:44)

ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہم جس قدر ممکن ہو سکے کوشش کریں اور خرچ کریں۔ یہ سبھی کام الحمدللہ ہماری تحریک کر رہی ہے جو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے اور اپ لوگوں کا ایک روپیہ بھی میری ذات کے لیے حرام ہوگا۔

آخری نبی آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو تکلیف دینے سے بچیں

پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان جب تو کسی لعنتی قادیانی سے خرید و فروخت یا کسی قسم کا لین دین کرتا ہے تو گنبد خضری میں آقا جان ﷺ کو تکلیف ہوتی ہے لہذا لعنتی قادیانیوں سے سماجی ، معاشی، معاشرتی مکمل بائیکاٹ کریں اور قادیانی کمپنیاں جو اپنا مال فروخت کر کے پیسہ کماتی ہیں وہ پیسہ مسلمانوں کو قادیانی یعنی کافر بلکہ کافروں سے بھی بدتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے ان کا مکمل بائیکاٹ کریں تا کہ مسلمانوں کو کافر نہ بنایا جائے اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔

ان کی کچھ کمپنیوں کے نام درج ذیل ہیں:

شیزان ،مشموم، مطب حمید ،احمد میڈیکس، وارسن،

ہومیو پیتھک کمپنی، ٹربو پلاسٹک ، کیورینو میڈیسن کمپنی ، یونیوسل ،اسٹبلائزر و گیزر ،شاہ تاج ٹیکسٹائل ،شاہ تاج شوگر ملز ،کمبائنڈ فیبرکس ،سرجیکل آلات ، پاکستان چپ بورڈ ،
Beta Pipes Shahnawaz,
Nasir packages (Pvt) Limited

عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع

جو عزت والے ہوتے ہیں انہیں عزت اور اس کی حفاظت بہت عزیز ہوتی ہے کائنات میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ معزز ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عزت کی حفاظت محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی،اس چاہت کا اظہار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی عزت کے دفاع کرنے کی ترغیب دے کر کیا، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے ورنہ تو اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔

(حقوق جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ص:297)

قادیانی لعنتی پاکستان اور اسلام دونوں کے غدار ہیں۔(قائداعظم محمد علی جناح)

نوٹ: 15 مارچ یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر منایا جاتا ہے۔

تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت ﷺ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے

تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت ﷺ کسی سیاسی و مذہبی جماعت ، ذات، مسلک، مسجد و مدرسہ یا کسی پروفیسر و مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ رحمت کائنات ، حبیب کبریا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات کا مسئلہ ہے، اس لیے اسلامیانِ پاکستان کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت ﷺ کو اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو بتائیں، سمجھائیں اور ذہن سازی کریں۔

(تربیتی نصاب، صفحہ 102)

100 اولیاء اللہ کی طاقت:

علامہ مولانا نظیر احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وظیفہ بتا

دوں جو آدمی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو برا جانتا ہے ان کے خلاف بات کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتا۔ اس کا جو اجر ملے گا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کرسکتا۔ سبحان اللہ

مزید فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے گا اس کے اندر 100 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اور فرمایا بیٹھے ہوئے تسبیح پھیرتے رہو۔ یا تبلیغ کے لیے نکل جاؤ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو تو منہ چھپا کے ادھر سے نکل جاؤ کیا یہی دین ہے تمہارا؟

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو یہی دین ایمان ہے۔

ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرے داری کا ثواب خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل

حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کا دل کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں ہی رک جاؤں وہاں سکون بہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں آ کر اپنا دیدار عطا فرمایا اور حکم دیا کہ یہاں سے واپس برصغیر جاؤ وہاں ایک کذاب فتنہ پھیلا رہا ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور تاویل کی قینچی سے حدیث کو کاٹ رہا ہے۔ مطلب اپنے سے من گھڑت باتیں بیان کر کے حدیث کا نام دے رہا ہے جھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ لوگ اس کے فریب میں بھی آتے جا رہے ہیں۔

سوچنے کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو کہاں بھیجا؟ اور کب بھیجا؟ جب وہ مسجد

نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کو کوئی چھوٹا کام کرنے کے لئے حکم فرمائیں گے؟

علماء کرام فرماتے ہیں:

"جو بندہ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کام کر رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھی ہوئی نمازیں اس کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ سبحان اللہ، اب دل کھول کر ہر پلیٹ فارم پر کام کریں اور خرچ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔"

اگر ہم ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکیں تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ (سید محمد انور شاہ کشمیری)

اگر سانپ اور قادیانی دونوں ایک ہی وقت میں سامنے آ جائیں اور اگر ایک چھوڑنا پڑے تو سانپ کو چھوڑ دو قادیانیوں کو پہلے مارو کیونکہ قادیانی ایمان کو ڈستا ہے جبکہ سانپ صرف جان کو

(امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ)

سوال: کیا قادیانیوں کے ساتھ خرید وفروخت کرنا اٹھنا بیٹھنا اور مختلف تعلقات رکھنا ناجائز وحرام ہے؟

جواب: مسلمانوں کا براہ راست قادیانیوں سے لین دین اور ان سے ان کی یا کسی اور کمپنی کی مصنوعات خریدنا ممنوع و ناجائز ہے کیونکہ قادیانی اپنے عقائد باطلہ مثلاً ختم نبوت کا انکار انبیائے کرام علیہم السلام کی توہین وغیرہ کے سبب مرتد ہیں یعنی دعوی اسلام کرنے کے باوجود بہت سی ضروریات دین کے انکار کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد کفار کی سب سے بدترین قسم ہے یہاں تک کہ ان کے احکام کافر اصلی (ہندو، مشرک وغیرہ) سے بھی سخت ہیں اور مرتدین کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنا اُٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لین دین وغیرہ سب حرام اور سخت گناہ کے کام ہیں۔ یونہی دنیوی معاملات مثلاً خرید و فروخت وغیرہ بھی مرتد کے ساتھ جائز نہیں۔ لہٰذا قادیانیوں کے ساتھ خرید وفروخت نہیں کر سکتے البتہ دکان دار قادیانی نہیں تو پہلے والا حکم تو نہیں لیکن قادیانیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ ہی کرنا چاہیے۔ قادیانیوں کے ساتھ خرید وفروخت کی ممانعت کے متعلق سیدی اعلی

حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قادیانی مرتد ہیں ان کے ہاتھ نہ کچھ بیچا جائے نہ اُن سے خریدا جائے، ان سے بات بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ (فتاوی رضویہ جلد 23)

عام بَدْ مذہب (عیسائی ،ہندو وغیرہ) مرتدین (لعنتی قادیانی) کے مقابلے میں ہلکا حکم رکھتے ہیں اور عام بدمذہبوں سے بچنے کی نہایت تاکید ہے تو مرتد (قادیانی) کا معاملہ تو اور شدید ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدمذہبوں کی صحبت سے دُور رَہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشادفرمایا: تم ان سے دُور رَہو اور وہ تم سے دُور رَہیں کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کردیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ (صحیح مسلم، باب النھی عن الروایۃ عن الضعفاء، جلد1 ،صفحہ 33، مطبوعہ لاھور)

ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفرمایا: نہ تم اُن کے پاس بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ ، پیو، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرو۔

(کنز العُمّال، جلد 6، کتاب الفضائل، باب ذکر الصحابۃ، صفحہ 246، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ، بیروت)

آخری نبی آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔

درود پاک کی احادیث اور 41 درود پاک پڑھنے سے پہلے کچھ ختم نبوت ﷺ کے متعلق پڑھ لیجئے:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ترجمہ: حضرت محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، (یعنی اب آخری نبی حضرت محمد ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا) اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ (سورۃ الاحزاب، آیت:40)۔

تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت ﷺ کا کام انتہائی خوش بختی اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ ہر کس و ناکس کو یہ ذمہ داری نہیں دی جاتی بلکہ اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لئے قدرت حق صرف اُن خوش نصیبوں کا انتخاب کرتی ہے جن پر وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔

تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت ﷺ پہ چند احادیث اور واقعات

تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت ﷺ

جان جاناں آخری نبی حضرت محمد ﷺ کے فرامین:

1. قیامت تک جو کسی بھی نبی کی شان میں ہلکی بات (گستاخی کرے) اُس کا سر تن سے جدا کر دو۔ (مسند الفردوس رقم الحدیث 5688)

2. تحقیق عنقریب میری اُمت میں 30 جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ (ترمذی شریف، حدیث: 2219)

ناموس رسالت ﷺ پر پہرہ دینے پر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کس طرح دیدار ہوا اور کس طرح نوازا گیا۔

جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی ہونا تھی، اس سے ایک روز

پہلے میں حسب معمول غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھڑی کا پہرہ دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹھری سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھری کی طرف بھاگا۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسحورکن خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی رحمۃ اللہ علیہ حالت سجدہ میں زار و قطار رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اُٹھے تو میں نے اُن کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا، غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت! آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعہ کی تفصیلات ضرور بتائیں، بہرحال غازی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بے حد اصرار پر فرمایا، عبداللہ! تمھیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے شافع محشر، حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ

کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمھیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا۔ حضور! بالکل نہیں۔ فرمایا: بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کیا۔ حضور! نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ پھر پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا: پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔"

یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خاص، قرب خاص اور دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لئے ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کریں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو

کم از کم ختم نبوت و ناموس رسالت ﷺ والی اور پوسٹیں (تحریریں، تصاویر، ویڈیو وغیرہ) فیس بک اور فیس بک گروپس میں، وٹس ایپ، وٹس ایپ گروپس میں ٹک ٹاک، انسٹا گرام وغیرہ جہاں ممکن ہو شیئر کریں۔

تحفظ ختم نبوت ﷺ کے لیے جنگ یمامہ کا ایمان افروز واقعہ

بس ایک بات یاد رکھنا مسلمانو!

رسول اللہ ﷺ کی ظاہری حیات میں 74 جنگیں ہوئی جن میں 259 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے پر صرف مسئلہ ختم نبوت ﷺ پر جنگ یمامہ کے مقتل میں 1200 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں کبھی۔

بس سب سمجھوتہ کر لینا لیکن جب بات رسول اللہ ﷺ کی ختم نبوت یا ناموس رسالت ﷺ کی آجائے تو پھر سر کٹانے کیلئے تیار ہو جانا جس دن ایسا ہو گیا پھر دیکھنا مسلمانوں کا عروج کیسے واپس آتا ہے (اِن شاء اللہ)۔

پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم ﷺ نے کیا حیران کن بشارت دی؟

پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب خواب میں آقا جان ﷺ کی زیارت ہوئی تو آقا جان ﷺ نے فرمایا تا قیامت تک جس نے 2 قدم ختم نبوت ﷺ کے لئے اُٹھائے اسکی پشت پر میرا ہاتھ ہوگا۔

مزید پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان جب تو کسی منکر ختم نبوت ﷺ سے ملتا ہے تو گنبد خضری میں رسول اللہ ﷺ کا دل غمگین ہوتا ہے۔ مزید علماء فرماتے ہیں کہ جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذاتی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ ختم نبوت ﷺ کے لیے کام کریں۔

میری تمام خدام درود سے عرض ہے کہ وہ اپنی پرنٹ ہونے والی کتابوں اور ڈائریوں میں تحفظ ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت ﷺ کثیراً کثیرا کے لیے قرآن پاک کی کچھ آیات اور احادیث کے تراجم اور تحفظ ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت ﷺ کی موٹیویشن کے لیے کچھ واقعات لازمی لکھیں جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈاکو کو اپنے دیدار سے کیوں مشرف فرمایا اور اس کے تمام گناہ بخشوا دیے!

پاکستان کے ایک شہر میں 90 فیصد قادیانی اور 10 فیصد مسلمان رہتے تھے ان مسلمانوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مقدس کی محفل کا انعقاد کریں تو جب قادیانی لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمان اپنے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اطہر، مقدس، منور کی محفل کا انعقاد کرنے والے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو دھمکی دی کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ذکر کا انعقاد کیا تو ہم آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں گے، نہ تو آپ کو اور نہ ہی آپ کی ماؤں بہنوں کو چھوڑیں گے جب عالم دین وہاں خطاب کرنے آئے تو مسلمانوں نے اس عالم سے معذرت کی کہ یہاں 90 فیصد قادیانی ہیں اور انہوں نے اس طرح ہمیں دھمکی دی ہے ہم کمزور ہیں اور معذرت خواہ ہیں کہ ہم یہ محفل کا انعقاد نہیں کر سکتے تو اس عالم دین نے کہا کیا یہاں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جس کا اتنا رعب و دبدبہ ہو کہ

قادیانیوں کو روک سکے تو اُنہوں نے بتایا کہ یہاں اور تو کوئی نہیں البتہ ایک نورا ڈاکو رہتا ہے جو کہ بہت ہی بہادر اور دلیر ہے تو اس عالم دین نے کہا کہ مجھے اس ڈاکو کے گھر لے چلو جب اس کی بیٹھک پہ پہنچے تو عالم دین سے اس ڈاکو نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی عالم دین ہیں اور مجھ جیسے گنہگار سیاہ کار ڈاکو سے آپ کو کیا کام پڑ گیا تو اس عالم دین نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے ذکر مقدس، مطہر، منور اور ناموس کی خاطر میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر آپ وہاں آ کر کھڑے ہو جائیں اور حفاظت کریں تو ہم محفل ذکر مصطفی ﷺ سجائیں گے تو اس ڈاکو نے کہا میں گنہگار ڈاکو ضرور لیکن بغیرت نہیں میں نبی کریم ﷺ کے ذکر و عزت کی خاطر آؤں گا اور قادیانیوں سے مسلمانوں کا دفاع کروں گا اور وہ آیا اور اس نے اعلان کیا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو میدان میں آجائے تو کسی کی ہمت نہ ہوئی اور مسلمانوں نے تسلی کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے ذکر مقدس اور ختم نبوت ﷺ کی محفل سجائی اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

تقریباً دو ماہ گزرنے کے بعد وہ نورا ڈاکو ایک دن اسی عالم سے ملا تو وہ عالم دین اسے پہچان نہ سکے اس وقت نورے ڈاکو نے داڑھی مبارک سجا رکھی تھی سر پہ امامہ شریف سجایا ہوا تھا اور دُرود وسلام پڑھ رہا تھا تو نورے ڈاکو نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا دفاع کیا تو اسی رات مجھے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیدار مطہر، مقدس، منور سے مشرف فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دُعا کر کے آپ کے تمام گناہ بخشوا دیے ہیں۔

یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس مقدس، مطہر، منور کی حفاظت کرنے کا صلہ اور سوچیں آخرت میں اس نورے ڈاکو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا قرب خاص ملے گا اور اللہ تعالیٰ اُسے کیا کیا انعامات سے نوازے گا لہذا ہم مسلمان بھی جتنا ہو سکے ناموس رسالت وختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کریں عملی طور پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کو شیئر کریں۔

1973 کے آئین کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298B اور 298C میں قادیانیوں پر مندرجہ ذیل پابندیاں ہیں:

1- قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔

2- قادیانی آذان نہیں دے سکتے۔

3- قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔

4- قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔

5- قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔

نوٹ: قادیانی اس قانون کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہم پر ختم نبوت کا تحفظ فرض ہے لہذا ہم نے اس قانون کی پاسداری کیلئے اس شعور کو گھر گھر تک پہنچانا ہے۔آپ احباب سے گزارش ہے کہ تمام فورمز پر اور سوشل میڈیا پر اس مشن کی بھرپور پبلسٹی کریں اور تمام گروپس میں اس پیغام کو عام کریں۔

درود شریف لکھنے کی فضلیت

فرمان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے کتاب (کاپی، رجسٹر وغیرہ) میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا، فرشتے اُس لکھنے والے کیلئے استغفار کرتے رہیں گے۔ (آبِ کوثر: صفحہ: 54)

درود لکھنے کی برکات کا مشاہدہ

ایک شخص روزانہ پانچ مرتبہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تھا اُسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم بیداری میں زیارت نصیب ہوئی۔ یاد رہے جن کو خواب میں یا بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے وہ زیارت سے پہلے بے شمار معجزات و کرشمات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ بغیر اعراب کے اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں (سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، بلکہ بغیر اعراب کے لکھا بھی آسانی کے ساتھ زیادہ جاتا ہے اور غلط اعراب کا خدشہ بھی نہیں رہتا۔

نوٹ: خواتین اپنے مخصوص ایام میں بھی لکھ سکتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں درود پاک کے متعلق ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو! ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو (کنز الایمان سورہ احزاب آیت نمبر 56) درج بالا آیت دیکھیں درود پاک وہ واحد ذکر ہے جس میں خود اللہ تعالی کی ذات بھی شامل ہے اس لیے یہ سب سے افضل ذکر ہے اور یہ کبھی رد بھی نہیں ہوتا جبکہ دوسری عبادات رد ہو سکتی ہیں۔

آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کے متعلق فرامین:

1- جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں برلاتا ہے۔ (دلائل الخیرات صفحہ نمبر:14)

2- جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، دس درجات بلند فرماتا ہے، دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور دس گناہ مٹا دیتا ہے۔ (سلسلۃ الاحادیث الصحیۃ:2960)

3- جس نے مجھ پر صبح وشام دس، دس مرتبہ درود شریف پڑھا اُسے قیامت کی دن میری شفاعت ملی گی۔ (مسند ابی یعلی، حدیث:7383)

4- جو مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن میں اس سے

مصافحہ (ہاتھ ملاؤں گا) کروں گا۔(القربۃ الی رب العلمین لابن بشکوال، حدیث:90)

5- جو مجھ پر سو مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالی اسکی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری (آزاد) ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔(معجم اوسط، حدیث:2735)

6- جو مجھ پر روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا نہ کبھی محتاج نہ ہوگا(حوالہ: مستطرف، الباب الرابع والثمانون فیما جاء فی فضل الصلوۃ رسول اللہ، ۵۰۸/۲)

7- جو مجھ پر روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانا جنت میں نہ دیکھ لے۔(الترتیب فی فضائل الاعمال لابن شاہین حدیث:19)

8- حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔(یعنی صرف درود شریف پڑھوں گا) تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمھاری فکریں دور کرنے کے لئے کافی ہوگا اور تمھارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔(ترمزی شریف ج4،ص 207،حدیث:2465)

9- جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے اللہ عزوجل اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا70 اخرت کی اور 30 دنیا کی۔(شعب الایمان ج 3 ص 111 حدیث3035)

10- جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ (جمع الجوامع للسیوطی ج7 ص199 حدیث 22353)

11- بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے (ترمذی ج2 ص27 حدیث 484)

12- جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے ساتوں زمینوں آسمان کی ہر چیز چرند پرند شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں (القول البدیع)

13- اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے (مسند احمد شریف حدیث نمبر 1645)

14- جو شخص مجھ پر درودِ پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنّت کا راستہ بھول گیا۔ (مجمع الزوائد، ۱۰/۲۵۵، حدیث: ۱۷۳۰۷)

15- جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں تو (قیامت کے دن) ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ِندامت ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو ان کو معاف فرمادے گا۔ (سنن ترمذی، کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب فی القوم یجلسون ولا

یذکرون اللّٰہ، ۵/ ۲۴۷، الحدیث: ۳۳۹۱) نوٹ: جوشخص یوٹیوب پہ یہ سرچ کر کے دیکھ لے گا اس کی زندگی بدل جائے گی اور وہ گزری ہوئی زندگی پہ پچھتائے گا۔

۱۔درود پاک کی فضیلت پہ 40احادیث مبارکہ

۲۔درود پاک کے مشاہدات وکرشمات۔

16-اے لوگو! بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں (یعنی گھبراہٹوں) اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں (الفردوس بماثور الخطاب ج5ص 277 حدیث8175)

17-مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔(ابن عساکر ج62ص 381)

18-جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے قیراط اجر لکھتا ہے اور قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔(مصنف عبدالرزاق ج1ص 39 حدیث153)

19-بے شک اللہ عزوجل ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلاں بن فلاں نے اپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے(مسند بزار ج4ص 255 حدیث1425)

20- جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عزوجل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ (فردوس الاخبار بماثور الخطاب ج 2 ص 284 حدیث 6083)

21- فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ (ایضاج 1 ص 339 حدیث 2484)

22- قیامت کے روز اللہ عزوجل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

1- وہ شخص جو میرے اُمتی کی پریشانی دور کرے۔ 2- میری سنت کو زندہ کرنے والا۔

3- مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ (البدور السافرہ للسیوطی ص 131 حدیث 366)

23- جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عزوجل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔

24- مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا (فردوس الاخبار ج 1 ص 422 حدیث 3149)

1 "رحمت کے 70 دروازے کھولنے والا آسان درُود شریف"

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

اِس درُود پاک کی شان و عظمت یہ ہے کہ جو یہ درُود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔(القول البدیع ص 27)

اس درُود شریف کو پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں لیکن ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اس درُود شریف کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی نوازا جاتا ہے۔

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے "القول البدیع" میں درُود شریف کے اس واقعہ کو تحریر کیا ہے کہ ایک شخص ملک شام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد بوڑھا اور نابینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا پیاسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد سے کہو کہ سات ہفتے تک یہ درُود شریف پڑھے تو وہ مجھے خواب میں دیکھے گا، تو اس کے والد نے ایسا ہی کیا اور اِس درُودِ پاک کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازا گیا۔

2 "مختصر اور جامع دُرود شریف"

صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

یہ سب سے مختصر اور جامع دُرود شریف ہے اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا دُرود شریف ہے۔

دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص حضور ﷺ کا نامِ نامی، اسمِ گرامی پڑھے یا سُنے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ حضور ﷺ پر دُرود شریف پڑھتا ہے۔

قصّہ معراج میں منقول ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا ﷺ حضرت جبرائیل علیہ السّلام کے ہمراہ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو ان سے پوچھا گیا:

ومن معک ؟ آپ کے ساتھ کون ہیں؟

اس پر جبرائیل علیہ السّلام نے جواب دیا:

محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ۔

میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں۔

(صحیح مسلم: 162)

درود پاک ﷺ پڑھنے کے مشاہدے

ایک عورت 1000 بار روزانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی تھی اسے نبی کریم ﷺ کی زیارت بھی ہوئی اور بات چیت بھی ہوئی۔ اور بھی بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں جن کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے نبی کریم ﷺ کی زیارت بھی ہوئی اور بات چیت بھی اور لاعلاج روحانی وجسمانی بیماریوں سے چھٹکارا ملا، ذہانت اتنی تیز ہوگئی جو ایک بار پڑھا سنا وہ یاد ہوگیا ایک بھائی کو تو صرف 18 سال کی عمر تقریباً 17 بار نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی اور تقریباً پانچ چھے بار تو نبی کریم ﷺ سے خواب میں بات چیت بھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔

نوٹ: ہر درود پاک سے مشاہدات اور کرشمات سب ہوتے ہیں چاہے ایک یا ایک سے زیادہ درود پاک پڑھیں بس تقویٰ اور نبی کریم ﷺ کی یاد میں پڑھیں کہ نبی کریم ﷺ میرا درود پاک سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مجھ پہ نظر کرم کریں گے اور میرا دنیا و آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز

3 "عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ دُرود شریف"

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ
وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ الله

یہ دُرودِ پاک عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ دُرودِ پاک ہے اور حضور سے محبّت کرنیوالوں کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ دُرودِ پاک ہر نیک مجلس، وعظ و نصیحت، درس و تدریس، کے آغاز و اختتام میں پڑھا جاتا ہے۔ اِس دُرودِ پاک کی خاص بات یہ ہے کہ اِس دُرودِ پاک کے پڑھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ اور قربِ خاص نصیب ہوتا ہے اور جن لوگوں کو دُرودِ پاک پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا اور ان کا دُرودِ پاک توجہ سے نہیں پڑھا جاتا وہ اِس دُرودِ پاک کو کثرت سے پڑھیں، پڑھتے وقت کیفیت بھی بنے گی، ذوق و شوق میں اضافہ بھی ہوگا اور اِس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بھی نصیب ہوگی۔ ان شاءاللہ عزوجل

4 "لُطف و کرم سے بھرپور دُرود شریف"

سَيِّدِنَا كَرِيْمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مُبارکہ میں سے ایک اِسم " کریمؐ" بھی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اُمتیوں پر بہت زیادہ احسانات اور کرم نوازیاں ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُمتیوں پر بہت کرم فرمانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو "سیّدُنا کریمؐ" کہہ کر دُرود شریف پڑھے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لُطف و کرم سے ضرور نوازا جائے گا۔ درحقیقت یہ نہایت آسان اور بہترین دُرود شریف ہے۔ (القول البدیع ص399)

5 "80 سال کے گناہوں کی مغفرت"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا

القول البدیع میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے یہ دُرود شریف اسی (80) مرتبہ پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔

6 "بہترین درُود شریف"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ
وَّبَارِکْ وَسَلِّمْ

یہ درُودِ پاک مختصر آسان اور جامع درُودِ پاک ہے درُودِ ابراہیمی کا آغاز اِسی درُودِ پاک "اللھم صلی علی محمد وعلی آل محمد" سے ہوتا ہے۔ اور اس درُودِ پاک کی خاص بات یہ ہے کہ اس درُودِ پاک میں درُود بھی ہے اور سلام بھی ہے اور بڑا بابرکت اور مقبول درُودِ شریف ہے۔

7 " گناہ معاف کروانے والا درود شریف "

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ درُودِ پاک پڑھے۔ اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (المرجع السابق ص65)

8

"درُودِ خضری"

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ

درُودِ خضری حضرت خضر علیہ السّلام کی طرف سے حضور ﷺ کی اُمت کے لیے خاص تحفہ ہے۔ یہ درُودِ پاک اولیائے کرام کا پسندیدہ درُودِ پاک ہے۔ اس درُودِ پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درُودِ پاک کو پڑھنے والا حضور ﷺ کا خاص غلام بن جاتا ہے۔ دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور سکون کی دولت سے مالا مال رہتا ہے۔ اس درُودِ پاک کو پڑھنے والے کے لیے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ اس درُودِ پاک کو پڑھنے کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اس درُودِ پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو روضہ رسول ﷺ کی حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اولیائے کرام جیسے حضرت مجدّد الف ثانی رحمتہ اللّٰہ علیہ، حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمتہ اللّٰہ علیہ، حضرت اسماعیل شاہ رحمتہ اللّٰہ علیہ، حضرت حافظ محمد صدیق قادری رحمتہ اللّٰہ علیہ اور مصنّف آبِ کوثر و کتب کثیرہ حضرت مفتی امین صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ اس درُودِ پاک کا کثرت سے وِرد کرتے اور اپنے مرُیدین کو اس درُودِ پاک کی کثرت کرنے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ بے شک عاشقانِ رسول ﷺ کا یہ پسندیدہ درُودِ پاک ہے۔

9 "چھ لاکھ درُ ود شریف کا ثواب"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

حضرت احمد صاوی رحمتہ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں:

اس درُ ود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درُ ود شریف کا ثواب ملتا ہے۔

(افضل الصلوات علی سید السادات ص149)

10 "ایک ہزار دن کی نیکیاں"

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا ھُوَ اَھْلُہٗ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کے پڑھنے والے کیلئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔

(مجمع الزوائد جلد 1۔ص 254)

ایک بزرگ ایک ہزار مرتبہ صبح اور ایک ہزار مرتبہ رات میں اسے پڑھتے تھے، اور حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔

11

"قُربِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَهٗ

یہ دُرودِ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ دُرودِ پاک ہے، ایک دن ایک شخص آیا تو حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کے درمیان بٹھالیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعجّب ہوا کہ یہ کون ذِی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا: جب یہ مجھ پر دُرودِ پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔
(القول البدیع ص125)

اس درود شریف کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں لیکن ایک خاص برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اس درود شریف کا کثرت سے ورد کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازا جاتا ہے۔

(12) "مال میں خیر و برکت"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

صاحب رُوح البیان فرماتے ہیں: جو شخص اس دُرودِ پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ (تفسیر رُوح البیان، الاحزاب تحت الآیۃ 26، جلد 7۔ص 233)

جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رِزق خوب وسیع ہو جائے تو اِس دُرودِ پاک کو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ پڑھے، اللہ عزوجل چاہے تو رِزق میں خوب برکت نصیب ہوگی۔

(13) "دُرودِ رحمت"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ

ہر حاجت، ہر قسم کی پریشانی، مقدمات، کاروبار، رِزق میں برکت، امتحان میں کامیابی، اولاد کا حصول، ہر طرح کی حاجت کو پورا کرنے کیلئے یہ دُرودِ پاک

مجرّب المجرب ہے۔عشاء کے بعد صلاۃ الحاجات پڑھ کر 1100 مرتبہ اِس دُرودِ پاک کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اُمت کو ایصال کر دیں اور اِس دُرود شریف کے طفیل اپنی حاجت اور مقصد کیلئے دُعا کریں اللہ عزوجل نے چاہا تو حاجت پوری ہوگی۔

14 "قوتِ حافظہ مضبوط کرنے والا درُود شریف"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس دُرودِ پاک کو کثرت سے پڑھے ان شاء اللہ عزوجل حافظہ قوی ہو جائے گا۔ (افضل الصلوات علی سید السادات۔ص 192,191، ملتقطا)

15 "شفاعت کا بہترین ذریعہ"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

شافع اُمم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص یوں درُودِ پاک پڑھے اس کیلئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ (الترغیب والترہیب جلد 2 ص 329)

16 "درُودِ غوثیہ"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْکَرَمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

یہ درُودِ پاک خاندان قادریہ کے معمولات میں سے ہے۔ اکثر قادری بزرگ اپنے مریدین کو اس درود پاک کو روزانہ 511 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ درُود شریف رحمتِ خُداوندی کا خزانہ

ہے۔ جو شخص اس دُرودِ پاک کو 11 مرتبہ بھی پڑھے گا وہ رحمتِ خداوندی سے مالا مال ہوگا اور اسے سات نعمتیں حاصل ہوں گی۔
(۱) رِزق میں برکت (۲) تمام کام آسان ہو جائیں گے
(۳) نزع کے وقت کلمہ نصیب ہوگا (۴) جان کنی کی سختی سے محفوظ رہے گا
(۵) قبر میں سختی سے محفوظ رہے گا (۶) کسی کی محتاجی نہیں ہوگی (۷) مخلوقِ خدا اس سے محبّت کرے گی اسکے علاوہ حضور ﷺ کے قربِ خاص اور آپ ﷺ کی زیارت کیلئے بھی یہ دُرودِ پاک بہت موثر ہے۔

17 "نامہ اعمال کو نیکیوں سے وزنی کرنے والا درود شریف"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ حَسَنَاتِهٖ

یہ دُرود شریف نامہ اعمال کو نیکیوں سے وزنی کرنے والا درود شریف ہے، اس دُرود شریف میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی ہے

کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اُن کی نیکیوں کی تعداد کے برابر رحمت نازل فرمائے ۔اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔

18 "خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِی الْاَرْوَاحِ
وَعَلٰی جَسَدِہٖ فِی الْاَجْسَادِ وَعَلٰی قَبْرِہٖ فِی الْقُبُوْرِ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح دُرودِ پاک پڑھے گا اسے خواب میں میری زیارت نصیب ہوگی اور جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہوگی اِسے قیامت کے دن بھی میرا دیدار نصیب ہوگا اور جسے قیامت کے دن میرا دیدار نصیب ہوگا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی اور جسے میری شفاعت نصیب ہوگی اُسے میرے حوض سے پینا نصیب ہوگا اور اللہ تبارک وتعالیٰ اس کے جسم کو جہنّم پر حرام فرمادے گا۔(القول البدیع ص43)

19

"درودِ ہزارہ"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ کُلِّ ذَرَّۃٍ مِّائَۃَ اَلْفِ اَلْفِ مَرَّۃٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

یہ درود پاک طالبانِ روحانیت کا محبوب درود پاک ہے کیونکہ اس کے ورد سے روحانی منازل طے کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت،عنایت اور توجہ نصیب ہوتی ہے یہ دُرودِ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے موثر اور اکسیر مانا جاتا ہے۔اِس دُرودِ پاک کے وِرد سے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دُور ہوتی اور وُسعتِ رِزق نصیب ہوتا ہے۔

20

"دُرودِ نور"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ وَسِرِّ الْاَسْرَارِ وَسَیِّدِ الْاَبْرَارِ

یہ دُرودِ پاک اسمِ اعظم ہے۔ اگر کوئی نیک دِل، ولی اللہ یا عارف باللہ بننا چاہتا ہے تو اِس دُرودِ پاک کو ضرور پڑھے اور جمعہ کے دِن تو کم از کم ایک تسبیح اِس دُرودِ پاک کی ضرور پڑھنی چاہیئے۔ اِس دُرودِ پاک کی کثرت سے اللہ عزوجل نے چاہا تو دِل میں نور پیدا ہوگا، اسرارِ الٰہی کھلنا شروع ہوجائینگے اور حجابات اُٹھنا شروع ہوجائینگے۔

21 "دُرودِ مستجاب الدعوات"

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمُ

یہ دُرودِ پاک اللہ تعالٰی کا رحم و کرم حاصل کرنے کیلئے بہت بڑا وسیلہ ہے جو شخص اِس دُرودِ پاک کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ بعد نمازِ عشاء پڑھے وہ زندگی بھر معزز و مکرم رہے گا۔ جو اِس دُرودِ پاک کو کم از کم 11 مرتبہ بھی پڑھے گا تو اِس کی برکت سے عزت، دولت، نعمت، برکت اور رِزق

کی وُسعت کو پائے گا۔ اگر اِس دُرودِ پاک کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازا جائے گا (ان شاء اللہ عزوجل)

22 "حالتِ بیداری میں زیارتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروانے والا دُرود شریف"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

شیخ حسن العدری رحمتہ اللہ علیہ نے "شرح دلائل الخیرات" میں بعض عارفین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جو کوئی دِن رات میں پانچ سو بار یہ دُرود شریف پڑھے وہ مرنے سے پہلے بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو گا۔ (سعادۃ الدارین، ص564)

23

"درودِ رضویہ"

صَلَّی اللّٰہُ عَلَی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَاٰلِہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ
صَلٰوۃً وَّسَلَامًا عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ

اِس دُرود شریف کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اِس دُرودِ پاک کے پڑھنے والے کو حضور ﷺ کی خاص توجہ نصیب ہوتی ہے اور اسے روضہ رسول ﷺ پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس دُرودِ پاک کی خوب خوب برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اِس دُرود و سلام کو روزانہ پڑھنے کے ساتھ بالخصوص بعد نمازِ جمعہ مجمع کے ساتھ مدینہ طیبہ (زادھا اللّٰہ شرفا و تعظیما) کی طرف منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہو کر 100 مرتبہ پڑھیے۔ جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو جمعہ کے دن نمازِ صبح خواہ ظہر یا عصر کے بعد پڑھیے جو کہیں اکیلا ہو تنہا پڑھے۔ یونہی اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔

اللہ عزوجل نے چاہا تو ایسی برکات ملیں گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ (پاکستان میں دائیں جانب مڑ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں) قبلہ رُو کھڑے رہنے سے بھی مدینہ منورہ شریف کی طرف رُخ ہو جاتا ہے)

24 "خیر کے دروازے کھولنے والا درود شریف"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَّسَلَامًا يَفْتَحُ لَهٗ اَبْوَابَ كُلِّ الْخَيْرِ وَالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالسَّلَامَةِ

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، سلامتی، فضل اور خیر کے دروازے کھل جائیں، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات نصیب ہو، رزق کی وسعت کے ساتھ ایمان کی سلامتی اور عافیت نصیب ہو اُسے چاہیے وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔

25

"درود شبِ جمعہ"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ
النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْحَبِیْبِ الْعَالِی الْقَدْرِ
الْعَظِیْمِ الْجَاہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ

بزرگوں نے فرمایا: ہر شبِ جمعہ (جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات) اس درودِ پاک کو پابندی سے پڑھنے والا موت کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ اور قبر میں داخل ہوتے وقت دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اُسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اُتار رہے ہیں۔ (افضل الصلوات علی سید السادات۔ص 151، ملتقطا)

26

"درودِ اسمِ اعظم"

اَللّٰہُ رَبُّنَا مُحَمَّدٌ صَلّٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَا
نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلّٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَا

اِس دُرودِ پاک کو دُرودِ اسمِ اعظم کہا جاتا ہے جس طرح اسمِ اعظم پڑھ کر ہر دُعا قبول ہوتی ہے ویسے ہی اِس دُرود کو پڑھنے والوں کو دین و دنیا کے ہر کام میں فتوحات اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔

27 "قطب کے مقام پر پہنچانے والا دُرود شریف"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ

شیخ امام عارف باللہ سیدی عبداللہ بن محمد المغربی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دُرودِ پاک اپنے شیخ قطب کامل سے حاصل کیا جو تقریباً تیس سال تک قطبیت کے مقام پر فائز رہے، یہی دُرودِ پاک ان کی طریقت کا سہارا تھا اسی کے ذریعے وہ خود بھی مقام ولایت پر پہنچے اور اسی کے ذریعے اپنے شاگردوں کو مقام ولایت پر پہنچایا وہ نبی اکرم ﷺ پر روزانہ پچیس ہزار مرتبہ یہ دُرود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس دُرود شریف کو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیئے۔ (سعادۃ الدارین۔ص 635)

28 "صاحبِ کشف بنانے والا دُرود شریف"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

یہ درود شریف صاحبِ کشف بنانے والا اور علم و حکمت کے دروازے کھولنے والا درود شریف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو "اُمی" کے لقب سے نوازا ہے۔ جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے براہِ راست تمام علوم آپ ﷺ کو عطاء فرمائے اور اس صیغے کے ساتھ دُرودِ پاک پڑھنے کے جہاں اور بے شمار فضائل و برکات ہیں وہیں ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو یہ دُرودِ پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے "کشف" کے دروازے کھول دیتا ہے۔

29 "ثواب کا خزانہ"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ

اگر کوئی شخص قسم اُٹھائے کہ میں حضور ﷺ پر افضل دُرود شریف پڑھوں گا تو اس دُرود شریف کے پڑھنے سے قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ دُرود شریف نامہ اعمال کو نیکیوں سے وزنی کرنے والا دُرودِ پاک ہے۔
اس دُرود شریف کو ثواب کا خزانہ کہہ سکتے ہیں (سعادۃ الدارین، ص60)

30 "دُرودِ محمدی ﷺ"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ صَلٰوۃً دَائِمَۃً م بِدَوَامِ خَلْقِ اللّٰہِ

یہ دُرودِ پاک حضور ﷺ کے اِسم کے ساتھ منسوب ہے۔ اِس دُرودِ پاک کو عارفین وقت نے دُرودِ محمدی ﷺ اسلئے کہہ کر پکارا ہے کیونکہ یہ دُرود حضور ﷺ کیلئے خاص ہے اور حضور ﷺ کی محبّت کے حصول کیلئے یہ دُرودِ پاک ایک بہت بڑا راز ہے۔ یہ دُرودِ پاک ایک خاص طاقت ہے، اسکی طاقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ دُرودِ پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت سے ضرور فائدہ اُٹھانا چاہئے اور اِس دُرودِ پاک کا کثرت سے وِرد کرنا چاہئے۔

31

"قبر میں قربِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًی وَّلِحَقِّهٖ اَدَاءً

جو کوئی دن میں تینتیس 33 مرتبہ یہ دُرودِ پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اِس کی قبر اور قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے حجاب دُور فرما دے گا۔ (سعادت الدارین جلد 1، ص 628)

32

"دُرودِ انعام"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ اِنْعَامِ اللّٰهِ وَاِفْضَالِهٖ

دُرودِ انعام پڑھنے سے دین و دنیا میں بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں لہٰذا جو شخص چاہے کہ اس پر ہمیشہ اللہ کی رحمت برسے اور دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز رہے تو اُسے چاہئے اِس دُرودِ پاک کو کثرت سے پڑھے اور اگر کسی کے

گھر اولاد نہ ہوتی ہو تو 313 مرتبہ اِس دُرودِ پاک کا روزانہ وِرد کرنا چاہئے اور اگر کوئی اِس دُرودِ پاک کو پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کرے گا تو وہ مرحومین قبر میں راحت پائیں گے (ان شاءاللہ عزوجل)

33 "شفائے امراض"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَاۗءِھَا وَعَافِیَۃِ الْاَبْدَانِ وَشِفَاۗءِھَا وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِیَاۗءِھَا وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

یہ دُرودِ پاک ہر طرح کی جسمانی، روحانی، اثراتی، جناتی بیماریوں کو دُور کرنے کیلئے انتہائی مجرّب مانا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کا ایسا مرض جس کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آچکے ہوں یا ایسی مہلک بیماریاں خواہ وہ کسی بھی طرح کا کینسر ہو، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، یرقان ہو، گردے ناکارہ ہو گئے ہوں، دِل کے امراض ہوں یا کسی بھی قسم کے رُوحانی امراض ہوں،

ڈپریشن ہو، نفسیاتی امراض ہوں، تبخیر ہو، حافظے کی کمزوری ہو یا طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہو، یا عبادت میں دِل نہ لگتا ہو، ہر طرح کی بیماریوں اور مسائل کو دُور کرنے کیلئے اِس درُودِ پاک کا وِرد نہایت مجرّب مانا جاتا ہے۔ باوضو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں یا پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں شفاء ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں۔ بِاِذنِ اللّٰہ موت کے سِوا ہر مرض کیلئے مفید ہے۔

34 "گناہوں سے نجات دلانے والا درود شریف"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْصُوْمٍ وَّاحْفَظْنِيْ مِنَ الْخَطَايَا بِبَرَكَةِ عِصْمَتِه

جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے گناہوں کی بیماری سے نجات نصیب ہو، عبادات کی خوب توفیق ملے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے اسے چاہیے کہ وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔

35 "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے طلبگاروں کے لیے خاص تحفہ"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ الْاَحْسَنِ الْاَجْمَلِ تَرْزُقُ زِيَارَتَهٗ لِمَنْ يُّصَلِّيْ عَلَيْهِ

اس دُرودِ شریف کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں لیکن بلخصوص یہ دُرودِ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے خاص دُرودِ شریف ہے، اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپنے والوں کے لیے خاص تحفہ ہے۔ اس درود شریف میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی ہے کہ وہ اُن حسین اور نورانی چہرے والے نبی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جن پر درود بھیجنے والوں کو اُن کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔

36 "درُود حل المشکلات"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِيْ اَدْرِكْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ دُرودِ پاک بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کیلئے نہایت مجرب مانا جاتا ہے۔ سید ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اِس دُرودِ پاک کو ایک فتنہ عظیم میں پڑھا جو دمشق میں واقع ہوا اسے ابھی دو سو مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ (أفضل الصلوات علی سید السادات۔ ص154)

یہ دُرودِ پاک مشکلات کو آسان کرنے کیلئے بہت موثر ہے۔ اس لئے اسے دُرود حل المشکلات کہا جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل کو حل کرنے کے لئے اس دُرود شریف کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ حضرت علامہ محمد یوسف بن اسمعیل نبہانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "سعادة الدارين فی الصلوة علی سید الکونین" میں تحریر فرمایا ہے۔

طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے دو رکعت نماز نفل پڑھیں اور نفل کی پہلی رکعت میں "سورة فاتحہ" کے بعد "سورة الکافرون" دوسری رکعت میں "سورة فاتحہ" کے بعد "سورة اخلاص" پڑھیں پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اِسی جگہ بیٹھیں جہاں سو جانا ہو اور صدقِ دل سے توبہ کرتے ہوئے ایک ہزار مرتبہ "استغفر اللہ العظیم" پڑھیں۔ اسکے بعد دو زانو مودبانہ بیٹھ کر یہ تصور باندھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں اور پھر یہ دُرودِ پاک 100 بار، 200 بار یا

جتنی اللہ توفیق دے پڑھیں اور جب نیند کا غلبہ ہو تو اسی جگہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے سو جائیں جب رات میں جاگیں تو دو رکعت نفل تہجّد پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر صبح کی نماز تک دُرود شریف پڑھتے رہیں اور پڑھتے وقت اپنی حاجت کا تصور بھی رکھیں۔ ان شاء اللہ ایک رات یا تین راتوں میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی بھی مشکل کو آسان کرنے کیلئے کسی وقت بھی 2000 مرتبہ یہ دُرود شریف پڑھنا بہت مجرب ہے۔

37 "بخشش و مغفرت"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ
وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اسی دُرود شریف کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور میرے لئے جنت ایسے مزین کی گئی جیسے دلہن کو مزین کیا جاتا ہے۔ (افضل الصلوات علی سید السادات ص 8)

بیہقی نے ابوالحسن شافعی سے ان کا اپنا خواب نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی نے جو درُود لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بدلہ کیا دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے یہ بدلہ دیا گیا ہے کہ وہ حساب کے لئے نہیں روکے جائیں گے۔

38 "1 لاکھ درُود شریف کا ثواب"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِيِّ وَالسِّرِّ السَّارِيْ فِيْ سَائِرِ الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ

اِس درُود شریف کو 1 بار پڑھا جائے تو ایک لاکھ بار درُود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نیز اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو یہ درُودِ پاک 5 سو بار پڑھے اِن شاءاللہ عزوجل حاجت پوری ہوگی۔ (افضل الصلوات علی سید السادات ص 113)

(39) "زیارتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص دُرودِ پاک"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّیَ عَلَیْہِ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا ھُوَ اَھْلُہٗ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی رُوْحِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَرْوَاحِ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی جَسَدِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَجْسَادِ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی قَبْرِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْقُبُوْرِ

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

بے شک ہر عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اُسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اور زیارتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس سے بہتر کوئی صیغہ نہیں۔

یقینِ کامل اور توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ طاق بار جتنا ہو سکے پڑھیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی تو ضرور زیارت سے نوازے جائیں گے
ان شاء اللہ عزوجل۔ (الوظیفہ الکریمہ، ص28)

40 "با کرامت بنانے والا دُرودِ شریف"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلٰوۃً دَائِمَۃً مَّقْبُوْلَۃً تُؤَدِّیْ بِھَا عَنَّا حَقَّہُ الْعَظِیْم

یہ وہ عظیم دُرودِ پاک ہے جو دلائل الخیرات جیسی عظیم کتاب کو لکھنے کا سبب بنا جسکی برکت سے کنویں سے اس وقت پانی باہر آگیا جب حضرت سلیمان جزولی رحمتہ اللہ علیہ کو وضو کرنے کے لیے پانی دستیاب نہ تھا اور ایک بچی جو اس دُرودِ پاک کا کثرت سے ورد کیا کرتی تھی اس نے اسے پڑھا اور اپنا لعاب کنویں میں ڈالا اور پانی ابل کر باہر آگیا۔

41 "سب سے افضل دُرودِ پاک"

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

اَللّٰھُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

دُرودِ ابراہیمی سب سے افضل دُرودِ پاک ہے کیونکہ یہ دُرودِ پاک حضور ﷺ کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ آپ ﷺ نے اِس دُرودِ پاک کو نہ صرف خود پڑھا بلکہ پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دُرودِ ابراہیمی دوسرے دُرودوں کی نسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے صیغے تمام دُرودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اِس دُرودِ پاک کو نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

کیا آپ بھی درودِ پاک کے خدمت گاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں

اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اپنی آخرت سنوارنے اور اپنے مرحومین کے ایصالِ ثواب کی نیت سے یہ گلدستہ درود وسلام ہمارے ذریعے سے چھپوا کر اپنی قریبی مساجد ،گھروں اور عزیز واقارب میں تقسیم کریں۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، کہ آپ کے ذریعے درود شریف کی دعوت عام ہوگی

عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتے رہیں گے آپ کو' آپکے والدین کو اور بالخصوص آپکے مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا

درود شریف پڑھنے کے بعد یہ کام ضرور کیجیے گا

اگر آپ حضور ﷺ کی خاص توجہ اور قربِ خاص حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خوب وزنی کرنا چاہتے ہیں تو اس گلدستۂ درود شریف کو پڑھنے کے بعد اس کے ثواب کا تحفہ حضور ﷺ کی مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد جتنے مسلمان مرد و عورت آج تک ہوئے، جو موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں اُن سب کو اور بلخصوص اپنے مرحومین اور والدین وغیرہ کو اِیصالِ ثواب کیجیے گا۔ ایسا کرنے والے کو تمام مؤمنین و مؤمنات اوّلین و آخرین سب کی گنتی کے برابر ثواب ملے گا۔ (فتاویٰ رضویہ، ج9، ص602 ملخصاً)

ایصالِ ثواب کرنے کی برکت

حضرت ابو المواہب شاذلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: تم قیامت کے دن ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ ﷺ! میں اِس قابل کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا: اس لئے کہ تم مجھ پر دُرود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذرانہ کر دیتے ہو۔ (الطبقات الکبریٰ للشعرانی، 101/2)

درود لکھی کے متعلق آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اقوال اولیاء اللہ

یہ درود پاک سلطان محمود غزنوی کی طرف منسوب ہے وہ روزانہ ایک لاکھ درود پاک بطور تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر پڑھا کرتے تھے اس وجہ سے سلطنت کے امور میں فرصت کا وقت بہت کم ملتا تھا ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا اور یہ درود پاک سکھایا اور فرمایا فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو تو ایک لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مزید بزرگ فرماتے ہیں جہاں درود لکھی پڑھا جائے وہاں رحمتیں، برکتیں ہوں گی لڑائی جھگڑا، پریشانی، رزق کی تنگی، جادو، جنات، سایہ وغیرہ سے محفوظ رہیں گے اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گی۔ اِن شاء اللہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ رَحْمَةِ اللهِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ فَضْلِ اللهِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

خَلْقِ اللّٰہِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی
اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ عِلْمِ اللّٰہِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ کَلِمٰتِ اللّٰہِ ۔
اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا
مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ کَرَمِ اللّٰہِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ حُرُوْفِ کَلَامِ اللّٰہِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ
قَطَرَاتِ الْاَمْطَارِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اَوْرَاقِ الْاَشْجَارِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ
رَمْلِ الْقِفَارِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا خُلِقَ فِی الْبِحَارِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ
الْحُبُوْبِ وَالثِّمَارِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الَّیْلِ وَالنَّھَارِ ۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَآ اَظْلَمَ

عَلَيْهِ الَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَآئِقِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمٰوٰتِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَیْءٍ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۔ صَلَوٰتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَاَنْبِيَآئِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجَمِيْعِ الْخَلَآئِقِ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَقَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ وَشَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيّٰتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ يَآ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ ۔ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا دَآئِمًا اَبَدًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

درود پاک کے بارے میں سوالات و جوابات:

سوال: کیا مرد و خواتین درود پاک ناپاک حالت میں پڑھ اور لکھ سکتے ہیں؟

جواب: جی ہاں، پڑھ اور لکھ سکتے ہیں

سوال: کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں درود پاک پڑھ اور لکھ سکتی ہے؟

جواب: جی ہاں، پڑھ اور لکھ سکتی ہے۔

سوال: کیا درود پاک پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت لینا لازمی ہے؟

جواب: نہیں، درود پاک پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری نہیں۔

سوال: کیا درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے؟

جواب: نہیں، درود پاک ہر وقت، صبح و شام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔

اگر آپ چاہتے ہیں دکھ تکلیف پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں بڑے بڑے مشاہدات و کرشمات دیکھیں تو مکمل تقویٰ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، فنی ویڈیو، ٹک ٹاک، فیس بک، TV سب کچھ چھوڑ دیں ہاں کوئی نعت کوئی علماء کا بیان سن سکتے ہیں۔

خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے کے لیے چن لیا جاتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو مرتبہ پسند کردہ گلدستہ (کتابچہ)

یہ وہ گلدستہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں پسند فرمایا اور اس کو میں نے اور میرے دوستوں نے پرنٹ کروا کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا تو بے شمار مشاہدات و کرشمات دیکھے اور پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خواب میں اشارہ ملنے کی وجہ سے ہم نے ناموس رسالت وختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کرنا شروع کیا تو اس گلدستے میں بھی کچھ واقعات اور کچھ آیات واحادیث مبارکہ کے تراجم بھی شامل کیے اور الحمداللہ یہ ترمیم شدہ گلدستہ کو دوسری بار پھر آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھ کے خوشی کا اظہار فرمایا اور اب مزید اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے۔

جو لوگ یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے فی سبیل اللہ ڈاک خرچ ادا کر کے آن لائن بذریعہ ڈاک منگوا سکتے ہیں اور لوگوں میں فی سبیل اللہ تقسیم کر سکتے ہیں جو لوگ یہ گلدستے تقسیم کریں گے انہیں اِن شاء اللہ، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا و آخرت میں قرب خاص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مقدس، تمام پریشانیوں (لاعلاج بیماریوں، کالے علم، جادو، سایہ، جنات وغیرہ) سے نجات، تمام جائز خواہشات کی تکمیل (اچھا گھر اچھا روزگار من پسند شادی وغیرہ وغیرہ) دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی، ان کا مقدر بنے گی اور جس گھر میں یہ گلدستہ ہوگا اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکات ہوں گی اور وہ گھر شیاطین، جنات، آسیب کے شر سے اور دکھ، تکالیف، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی مسلمان کسی وجہ سے تقسیم نہیں کر سکتا تو وہ جو ہم فی سبیل اللہ تقسیم کر رہے ہیں اس میں اپنا مالی حصہ ڈال سکتا ہے اس کی طرف سے بھی تقسیم کر دیے جائیں گے اور آپ لوگوں کے پیسے میری ذات کے لیے حرام ہیں۔ پڑھنے اور شوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے pdf بھی لے سکتے ہیں۔ (جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا)۔

محمد شاہد

Whatsapp 0340-6252923 JazzCash 0307-6332464 easypaisa 0345-0500385